

ایمرجنسی کے علاج کے لئے Medicaid طبی حالت ("ایمرجنسی Medicaid")

کسی ایمرجنسی طبی عارضہ کی علاج کے لیے Medicaid، جسے ایمرجنسی Medicaid بھی کہا جاتا ہے، اہل، بغیر دستاویزی ثبوت اور عارضی نیویارک میں رہنے والے تارکین وطن کی طبی اخراجات کو ادا کرنے میں مدد کرتا ہے جب انہیں کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے۔*

کیا میں ایمرجنسی Medicaid کا اہل ہوں؟

آپ ایمرجنسی Medicaid کے اہل ہو سکتے ہیں اگر آپ مکمل Medicaid کی اہلیت کی تقاضوں کو پورا کرتے ہیں لیکن اپنی امیگریشن (ترک وطنی) کی حیثیت کی وجہ سے اہل نہیں ہو پاتے ہیں۔

اہل ہونے کے لیے، آپ کو مندرجہ ذیل کو پورا کرنا ضروری ہے:

- + آمدنی کی تقاضوں کو پورا کرنا (کم آمدنی والے ہیں)۔
- + NYS کا باشندہ ہونا (عارضی قانونی باشندوں کو ریاستی رہائشی تقاضے کو نہیں پورا کرنا ہے)۔
- + آپ کے ادا کرنے کی صلاحیت سے قطع نظر، سبھی اسپتالوں کو آپ کا علاج کرنا ضروری ہے اگر آپ کو کوئی طبی ایمرجنسی ہوتی ہے۔

کیسے درخواست دیں



- + آپ کسی بھی وقت منظوری کے لیے سائن اپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی مستقبل میں ایمرجنسی ہوتی ہے۔ اگر آپ پیشگی اندراج کراتے ہیں، تو آپ کو 12 مہینوں کے لیے مستقبل کی ایمرجنسیوں کے اخراجات کے لیے منظوری دی جائے گی۔
- + اگر آپ کی عمر 65 سال سے کم ہے، تو آپ آن لائن اندراج کر سکتے ہیں۔ nystateofhealth.gov پر NY State of Health کو ملاحظہ کریں، یا 1-855-355-5777 پر فون کریں۔
- + زیادہ تر لوگوں کو جو 65 سال یا اس سے زیادہ عمر کے ہیں، یا جو معذور ہیں انہیں ایک الگ درخواست کو مکمل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اندراج میں مدد کے لیے، 347-396-4705 پر فون کریں۔

+ آپ کسی ایمرجنسی کے دوران یا اس کے بعد اسپتال پر بھی سائن اپ کر سکتے ہیں۔ اخراجات کا احاطہ کئے جانے کے لیے آپ کو ایمرجنسی علاج کے تین مہینوں کے اندر اندر سائن اپ کرنا ہوگا۔

یقین نہیں ہے کہ کیا آپ اہل ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے - آپ پتہ لگانے کے لیے کسی بھی وقت درخواست دے سکتے ہیں۔ اپنے کوریج کے اختیارات کے بارے میں پتہ لگانا پہلے سے بہت زیادہ آسان ہے! مزید معلومات کے لیے 311 پر فون کریں۔

صحت بیمہ کے لیے درخواست دینے سے آپ کی امیگریشن کی حیثیت متاثر نہیں ہوگی۔



ایمرجنسی Medicaid یا مکمل Medicaid کے لیے درخواست دینا یا اسے حاصل کرنا کسی شخص کے قانونی حیثیت کے لیے درخواست دینے کو متاثر نہیں کرے گا اور اس کی امریکی امیگریشن اور کسٹمز نفاذ (ICE) یا امریکی شہریت اور امیگریشن سروسز (USCIS) کو اطلاع نہیں دی جاتی ہے۔

*قانونی طور پر موجود مہاجرین اور عارضی مہاجر باشندے مکمل Medicaid یا ضروری پلان کے لیے اہل ہو سکتے ہیں۔ دونوں غیر ایمرجنسی نگہداشت کا بھی احاطہ کرتے ہیں۔



کیا ایمرجنسی Medicaid میری صحت کے تمام اخراجات کا احاطہ کرے گا؟

نہیں۔ ایمرجنسی Medicaid نگہداشت اور خدمات کے لیے صرف اسی وقت طبی ادائیگی فراہم کرے گا جب آپ کو کسی سنگین صحت کے مسئلے کے لیے فوری طبی توجہ کی ضرورت ہوگی۔ سنگین صحت کے مسائل میں دل کا دورہ یا شدید درد جیسے حالات شامل ہیں جو طبی مدد کے بغیر کسی خطرناک صحت کے نتیجے تک لے جا سکتے ہیں۔ ایمرجنسی Medicaid گردے کی ڈائلیسس اور ایمرجنسی زچگی یا وضع حمل سے متعلق اخراجات کا بھی احاطہ کرتا ہے۔ وہ ادویات جو ایمرجنسی کی صورت میں ضروری ہوتی ہیں اور کینسر کے علاج کے لیے کچھ نسخے کی دواؤں کا بھی احاطہ کیا جاتا ہے۔



اگر میں بیمہ شدہ نہیں ہوں اور مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے تو کیا کروں؟

اگر آپ کے پاس صحت کا انشورنس نہیں ہے اور آپ کو نگہداشت کی ضرورت ہے، تب بھی آپ اسے NYC میں حاصل کر سکتے ہیں۔ شہر کے عوامی اسپتال کے نظام (NYC Health + Hospitals) اور کمیونٹی صحت کے مراکز آپ کی آمدنی کے اعتبار سے تخفیف شدہ فیس کی بنیاد پر طبی نگہداشت فراہم کرتے ہیں۔ ریاستی قانون کے ذریعہ نجی اسپتالوں کو بھی امیگریشن کی حیثیت سے قطع نظر، کم آمدنی والے مریضوں کو خیراتی نگہداشت اور مالی مدد فراہم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

مزید معلومات کے لیے: nystateofhealth.ny.gov پر NY State of Health کو ملاحظہ کریں، یا 1-855-355-5777 یا 311 پر فون کریں۔

NYC
Human Resources
Administration
Department of
Social Services
FLY-957 (U)
04/16



جملہ حقوق محفوظ 2016، یہ حقائق نامہ NYC Human Resources Administration Office of Citywide Health Insurance Access طرف سے صرف معلومات کے مقاصد سے فراہم کیا جاتا ہے۔ اس مواد کے کل یا بعض کو دوبارہ پیش کرنے کی اجازت کے لیے New York City Human Resources Administration سے رابطہ کریں۔